



سوال

(78) سوتیلے بھائی یا نانا، نانی ولی ہو سکتے ہیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خالہ کے ولی نکاح اس کے سوتیلے بھائی ہوں گے یا نانا، نانی جن کے یہاں خالہ کی پرورش ہو رہی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سورت مسؤلہ میں اس لڑکی کے جائز اور شرعی ولی اس کے یہ سوتیلے بھائی ہی ہیں۔ حق ولایت میں عندا الجمہور عصوبت کا اور عصبابت کی ترتیب میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ ہوتا ہے اور اس لڑکی کا موجودہ حالت میں عصبہ اقرب سوتیلے بھائی ہی ہے۔ ہاں لڑکی کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش و تربیت کا حق شرعا اس کی نانی ہی کو ہے۔

فان لم تکن أم فام الأم أولى من أم الأب وإن بعدت لأن بدہ الولایۃ تسفاد من قبل الامونات (ہدایہ 414/2)

والأم والجدۃ أحن بالجارۃ حتی تجنض (ہدایہ 415/2)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2 - کتاب النکاح

صفحہ نمبر 203

محدث فتویٰ